

14569 - خلع والی عورت کی عدت اور اس کا خاوند سے رجوع

سوال

جب بیوی خاوند سے خلع کا مطالبہ کرے اور خاوند موافقت کر لے تو خلع کے بعد عورت کتنی مدت تک شادی کے لیے انتظار کرے؟ اور کیا ان دونوں کے لیے دوبارہ شادی کرنا ممکن ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله

اگر خلع حاصل کرنے والی عورت حاملہ ہو تو علماء کے اجماع کے مطابق اس کی عدت وضع حمل ہے، دیکھیں:

المغنی ابن قدامہ (11 / 227) -

لیکن اگر وہ حاملہ نہیں تو اس کی عدت میں علماء کرام کا اختلاف ہے، ان میں سے اکثر اہل علم تو اس طرف گئے ہیں کہ وہ تین حیض عدت گزارے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا عموم اسی پر دلالت کرتا ہے:

فرمان باری تعالیٰ ہے:

اور طلاق والی عورتیں تین حیض تک انتظار کریں البقرة (228) -

اور صحیح یہی ہے کہ خلع حاصل کرنے والی عورت صرف ایک حیض عدت گزارے گی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو بھی خلع حاصل کرنے کے بعد ایک حیض عدت گزارنے کا فرمایا تھا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر (1185) علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح ترمذی (946) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

اور یہ حدیث اس آیت کے عموم کے لیے مخصوص ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے، اور اگر وہ تین حیض عدت گزارے تو یہ اکمل اور احوط ہوگا اور علماء کرام کے اختلاف سے بھی نکلا جائے گا جو کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آیت کے عموم کے اعتبار سے وہ تین حیض عدت گزارے۔ دیکھیں فتاویٰ الطلاق للشیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ (1 / 286) -

اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ نئے نکاح کے ساتھ دوبارہ شادی کر لیں اس کے لیے آپ سوال نمبر (10140) کا مطالعہ کریں۔

اسلام سوال و جواب

نگران اعلیٰ:
شیخ محمد صالح المنجد

والله اعلم .